

## معلومات اور ثبوت کو محفوظ کرنے کے لیے تجاویز

آپ نے مکہے کوئی چیز دیکھی ہو یا کسی چیز کے بارے میں جانتے ہوں جو تفتیش و تحقیق کے لیے مددگار ثابت ہوسکتی ہو۔

اگر ممکن ہو تو آپ کے خیال میں جو چیز متعلقہ ہوسکتی ہے اور جبکہ آپ کی یادداشت ابھی تازہ ہے تو اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔

نیچے کچھ تجاویز دی گئی ہیں کہ کس طرح ریکارڈ رکھا جاسکتا ہے جو کہ قانونی طور پر مفید ہوسکتا ہے۔ مگر کسی قسم کی دستاویز / زندہ بچ جانے والا / صدمہ سے دوچار خاندان کا رکن جو تیار کرتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کا انکشاف فوجداری یا دیوانی کاروائیوں میں اور تفتیش / تحقیق کے دوران ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے شروعاتی نقطہ کے طور پر، یہ بہترین ہوگا کہ آپ کسی قسم کی دستاویز تیار کرنے سے پہلے قانونی مشورہ حاصل کریں۔

وکیل کی تلاش کے ضمن میں مزید مدد یا تعاون کے لیے برائے مہربانی انکوئیٹ نامی خیراتی ادارے کے ساتھ فون نمبر (020 7263 1111) پر رابطہ کریں یا نارٹھ گینسنگٹن لاء سینٹر پر (020 8969 7473) پر رابطہ کریں۔

## ثبوت کو کس طرح ریکارڈ کیا جائے۔

1. اپنی مادری زبان استعمال کرتے ہوئے، تاریخ اور وقت کی ترتیب کے ساتھ جو کچھ آپ نے دیکھا / سنا ہوا سے تحریر کریں، اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہ آیا کہ آپ کوئی چیز خود دیکھی تھی یا کسی دیگر شخص نے آپ کو معلومات دی تھی، ایسی صورت میں اس شخص کو واضح کریں۔
2. کسی بھی ایسے شخص کا نام، کام کا عہدہ اور رابطہ کی تفصیلات نوٹ کریں جس کے ساتھ آپ نے اس سلسلے میں بات چیت کی ہو مثال کے طور پر پولیس افسر، نمایاں افسر، رضاکار، دوست احباب، اور آیا کہ جو معلومات آپ نے ان کو دی ہیں انہوں نے انکو نوٹ کیا ہے۔
3. اپنی پوری کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہ کریں جو لوگوں نے آپ کو بتایا ہو اس ضمن میں کہ انہوں نے کیا دیکھا یا سنا۔ ان کو کہیں کہ وہ اپنا ریکارڈ خود بنا کر رکھیں اور اس کا علیحدہ نوٹ بنائیں۔
4. اگر آپ ساری معلومات یا اس کے کچھ حصے کو مہیا کرنے سے متعلق پریشان ہوں اس ضمن میں جو آپ نے دیکھا ہو یا سنا ہو تو اپنی تشویشات کو تحریر کریں۔
5. نوٹ کے آخر میں وقت اور تاریخ لکھیں جب آپ نے یہ نوٹ بنایا ہو۔ اس دستاویز (دستی تحریر یا الیکٹرونک) کو محفوظ مقام پر رکھیں۔
6. آپ دستاویز میں مزید معلومات شامل کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو یاد آئیں مگر اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ یہ کام کریں تو تاریخ ضرور لکھیں۔
7. اگر آپ کسی قسم کی متعلقہ تصاویر، ریکارڈنگز وغیرہ رکھیں تو یقینی بنائیں کہ انہیں متعلقہ آلہ کی ہارڈ ڈرائیو پر محفوظ کریں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ ایسا کس طرح کیا جاسکتا ہے تو مشورہ لیں۔

اس بارے میں پریشان نہ ہوں آیا کہ آپ کے خیال میں معلومات مفید ہے یا کہ نہیں۔ یہ اہم ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اور جتنی زیادہ معلومات ان لوگوں سے اگھٹی کی جاسکیں بہتر ہے جنہوں نے کسی چیز کے بارے میں سنا ہو یا اسے دیکھا ہو خواہ آگ والے دن یا اس واقعہ سے قبل یا بعد از، بشمول حفاظتی تشویشات سے متعلقہ۔